



## سوال

(575) روزہ کی حالت میں غروب ہونے سے پہلے دس منٹ حیض آنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور صرف دن غروب ہونے میں دس منٹ باقی ہیں یا اس سے بھی اس کو حیض آجاتا ہے۔ کیا وہ اس وقت اپنا روزہ افطار کر دے یا دس منٹ انتظار کر کے بعد کھولے اور یہ روزہ اس عورت کا شمار ہوگا یا کہ نہیں؟ نیز ایام حیض کے قضاء شدہ روزے کی قضائی کیا عید کے بعد متصل دسے یا سال بھر کے اندر اندر جب چاہے رکھ سکتی ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے باقی اب کھانے پینے میں اس کو اختیار ہے۔ جس طرح چاہے کرے جب روزہ ٹوٹ چکا ہے تو قضا ضروری ہے۔ یہاں ٹٹوں کا کوئی حساب نہیں۔ حیض روزے کی ضد ہے۔ دونوں جمع نہیں ہو سکتے حضرت عائشہ ماہ شعبان میں قضائی دیا کرتی تھیں۔ (مشکوٰۃ وغیرہ)

اس سے معلوم ہوا کہ دیر سے بھی قضائی دے سکتی ہے اور جتنی جلدی دی جائے بہتر ہے کیونکہ خطرہ ہے موت آجائے اور روزے ذمہ رہ جائیں۔

وباشد التوفیق

## فتاویٰ ارکان اسلام

### حج کے مسائل

### محدث فتویٰ

